امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ نے لفظ "نبی" کا ترجمہ (غیب کی خبریں دینے والا) کیوں کیا؟

ترجمہ قرآن "کنزالایمان" میں "النبی" کے ترجمہ "غیب کی خبریں دینے والا"

پر معاندین کے تمام اعتراضات کے مدلّل اور مسکت جوابات

امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ

نے لفظ ''نبی'' کا ترجمہ (غیب کی خبریں دینے والا) کیوں کیا؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تِلْکَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوْ حِیْھَا اِلَیْکَ (القرآن)

النّبیّ کا صحیح معنٰی ومفھوم

ترجمہ قرآن ''کنزالایمان'' میں ''النبی'' کے ترجمہ ''غیب کی خبریں دینے والا'' پر معاندین کے تمام اعتراضات کے مدلل اور مسکت جوابات

از قلم۔ غزالیِ زماں علامہ سیّد احمد سعید کاظمی قدس سرہٗ العزیز

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہٗ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہٖ واصحابہٖ اجمعین o

ابھی چند روز پہلے اسی رمضان شریف (۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء) میں فیصل آباد سے ایک پمفلٹ کی فوٹو کاپی بذریعہ ڈاک موصول ہوئی، اس پمفلٹ کا لکھنے والا کوئی شدید معاند معلوم ہوتا ہے، جسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انتہائی بُغض ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے معتقدین کو ملتِ بریلویہ سے تعبیر کرتا ہے۔

معاند مذکور نے مسئلہ علم غیب کے ضمن میں لکھا ہے:

(۱) اصطلاحی نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والے کے نہیں۔

(۲) اصطلاحی نبی نبأٌ سے ماخوذ نہیں، بلکہ اصطلاحی نبی نَبْوَۃٌ یا نباوۃ سے ماخوذ ہے، اُس نے اپنی تائید میں ائمہ لغت کی جو عبارات نقل کیں، سب میں قطع و برید اور انتہائی خیانت سے کام لیا اور بعض مقامات پر اپنی جہالت کا بھی مظاہرہ کیا جس کی تفصیل قارئین کے سامنے آرہی ہے۔

پمفلٹ مذکور میں بروایت حاکم ایک اعرابی کا یہ واقعہ بھی نقل ہے کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمزہ کے ساتھ نبیءَ اللہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر انکار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا! میں ہمزہ کے ساتھ نبیءُ اللہ نہیں، بلکہ بغیر ہمزہ کے نبیُّ اللہ ہوں۔

معاند نے اس کے معنی بیان کرنے میں انتہائی خیانت سے کام لیا اور اس بارے میں محدّثین اور اہل لغت کے اقوال اور بالخصوص یہ قول کہ اعرابی کی یہ روایت صحیح نہیں، بلکہ ضعیف اور منقطع ہے، از روئے خیانت نقل نہیں کیا اور حاکم کے تساہل ہونے کو بھی نظر انداز کردیا، ان شاء اللہ ہم ان سب حقائق کو دلائل کے ساتھ بیان کریں گے۔

اس معاند نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمزہ کے ساتھ لفظ نبیء کو لغت ردی بمعنی غیر فصیح قرار دیا۔

پھر مزید جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر ہمزہ لفظ نبیّ کو نبیءٌ بالہمزہ سے بلاغت کے اعتبار سے زیادہ بلیغ کہا، صرف یہی نہیں، بلکہ بعض ائمہ کے کلام میں لفظ ''اجــــود'' نقصان جودت کے معنی میں سمجھا اور ہمزہ کے ساتھ لفظ نبیءٌ کی

فصاحت کے خلاف بطور استدلال کہا کہ قرآن مجید میں نَبِیّ بلا ہمزہ آیا ہے اور یہ نہ دیکھا کہ ہمزہ کے ساتھ نَبِیءٌ پورے قرآن میں حضرت امام نافع کی قراءۃ ہے اور یہ قراءۃ اُن سات قراءتوں میں سے ہے جو سب متواتر ہیں اور اُن کے متواتر ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، جس کی تفصیل آرہی ہے۔

علاوہ ازیں اس معاند نے امام راغب اصفہانی اور صاحب روح المعانی پر بہتان باندھا کہ اعرابی کا منشاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہانت کا الزام لگانا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنکیر فرما کر غیب دانی اور کہانت کے الزام سے اپنی بریت کا اعلان فرما دیا، اس عبارت میں انکار کی بجائے تنکیر کا لفظ معاند کی جہالت ہے اور اس مضمون کا امام راغب اور صاحب روح المعانی کی طرف منسوب کرنا، ان دونوں بزرگوں پر بہتان تراشی ہے، نہ امام راغب نے اعرابی کی روایت مذکورہ کا یہ مفہوم بیان کیا اور نہ صاحب روح المعانی نے وَاذْكُرْ فِی الْكِتٰبِ مُوْسٰی کے تحت اس کہانت اور غیب دانی کا کوئی ذکر کیا۔

عبارات علماء میں اس معاند کی قطع و بُرید اور خیانت کے ساتھ اس کی جہالت کی تفصیل میں جانے سے پہلے نبی اور رسول کی تعریف علمائے متکلمین کی زبان سے سُن لیجئے، اُس کے بعد لفظ "غیب" اور لفظ "نبی" پر مفسرین و محدثین اور ائمہ لُغت کی عبارات ملاحظہ فرمایئے، معاند کی خیانت آپ کے سامنے بے نقاب ہو کر آجائے گی۔

(۱) نبی اور رسول کی تعریف کرتے ہوئے شرح عقائد نسفی میں علامہ تفتازانی نے فرمایا:

"هُوَ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللهُ اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَمِ".

(نبی اور رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کے لئے مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا)۔

احکام عملی ہوں جیسے عبادات و معاملات وغیرہ، یا اعتقادی، مثلاً مرنے کے بعد اُٹھنا، فرشتوں، جنت، دوزخ پر یقین رکھنا اور وہ تمام امور جو لوگوں سے غائب ہیں، وہ سب غیب ہیں، جن کی تبلیغ کے لئے نبی مبعوث ہوتا ہے اور ان سب امورِ غیبیہ کی انہیں خبر دیتا ہے، اس تعریف سے ظاہر ہو گیا کہ غیب کی خبر دینے والے کو نبی اور رسول کہتے ہیں، اب لفظِ غیب پر مفسرین کی عبارات ملاحظہ فرمایئے:

WWW.NAFSEISLAM.COM

(۲) امام نسفی نے "بالغیب" کے تحت فرمایا:

"مَاغَابَ عَنْهُمْ مِمَّا اَنْبَاَهُمْ بِهِ النَّبِیُّ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مِنْ اَمْرِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ وَالْحِسَابِ وَغَیْرِ ذٰلِكَ" (مدارک، جلد ۱، صفحہ ۲۱)

(یعنی غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو لوگوں سے غائب ہو، جس کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کو دی، مرنے کے بعد اُٹھنا، حشر و نشر، حساب اور اس کے علاوہ)۔

(۳) امام قرطبی نے اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ میں لفظ غیب کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل کرتے ہوئے فرمایا:

"وَقَالَ اٰخَرُوْنَ الْقُرْاٰنُ وَمَا فِیْهِ مِنَ الْغُیُوْبِ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ اَلْغَیْبُ كُلُّ مَا اَخْبَرَ بِهِ الرَّسُوْلُ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مِمَّا لَا تَهْتَدِیْ اِلَیْهِ الْعُقُوْلُ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِیْزَانِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ".

(ایک قول یہ ہے کہ یہاں الغیب سے مراد قرآن اور اُس کے غیوب ہیں، دوسرے علماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی وہ سب خبریں مراد ہیں جو انسانی عقول سے بالاتر ہیں جیسے علاماتِ قیامت، عذابِ قبر، حشر ونشر، پُل صراط، میزان، جنت اور دوزخ)۔

تمام اقوال کے بعد ابن عطیّہ کا محاکمہ نقل فرماتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:

''وَ هٰذِهِ الْاَقْوَالُ لَا تَعَارَضُ، بَلْ يَقَعُ الْغَيْبُ عَلٰى جَمِيْعِهَا''۔(قرطبی، جلد ۱، صفحہ ۱۶۳)

(یعنی ان تمام اقوال میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ ان سب چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ انتہیٰ)

(۵) بیضاوی میں يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ کے تحت ہے:

''وَالْمُرَادُ بِهِ الْخَفِيُّ الَّذِىْ لَا يُدْرِكُهُ الْحِسُّ وَلَا يَقْتَضِيْهِ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ''(بیضاوی، صفحہ ۱۸)

(یعنی غیب سے مراد ہر وہ پوشیدہ چیز ہے جو ادراک، حواس اور عقل سے بالاتر ہو۔ انتہیٰ)

اس کے بعد لفظِ غیب پر ہم ائمہ ٔلغت کی عبارات نقل کرتے ہیں:

(۶) لغت قرآن کے عظیم وجلیل امام شیخ ابو القاسم الحسین الراغب الاصفہانی ''الغیب'' کے تحت فرماتے ہیں:

''وَالْغَيْبُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ مَا لَا يَقَعُ تَحْتَ الْحَوَاسِّ وَلَا تَقْتَضِيْهِ بَدَاهَةُ الْعُقُوْلِ، وَ اِنَّمَا يُعْلَمُ بِخَبَرِ الْاَنْبِيَآءِ''۔انتہیٰ(مفردات امام راغب، صفحہ ۳۷۳)

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ میں الغیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حواس اور عقول سے بالاتر ہوں، انبیاء کی خبر کے بغیر اُن کا علم حاصل نہ ہو سکے۔

(۷) لغت عرب کے امام الائمۃ ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری اپنی شہرۂ آفاق تصنیف ''لسان العرب'' میں اور شارح قاموس امام لغت، الامام محبّ الدین ابو الفیض سید محمد مرتضیٰ الحسینی الواسطی الزبیدی الحنفی اپنی عظیم وجلیل تصنیف ''تاج العروس'' میں فرماتے ہیں:

''قَالَ اَبُوْاِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ اَىْ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ، فَاَخْبَرَهُمْ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَمْرِ الْبَعْثِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ كُلِّ مَا غَابَ عَنْهُمْ، مِمَّا اَنْبَاَهُمْ بِهٖ فَهُوَ غَيْبٌ''۔

(لسان العرب، جلد ۱، صفحہ ۶۵۴۔ تاج العروس، جلد ۱، صفحہ ۴۱۶)

(يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ کی تفسیر میں ابو اسحاق زجاج نے کہا، وہ ہر اس غیب پر ایمان لاتے ہیں جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دی، مرنے کے بعد اُٹھنے، جنت اور دوزخ کی اور ہر وہ چیز جو اُن سے غائب ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی انہیں خبر دی، وہ غیب ہے)۔

ائمہ ٔتفسیر وائمہ ٔلغت کی ان تمام عبارات سے ثابت ہو گیا کہ غیب کی خبر دینے والے کو نبی ورسول کہتے ہیں۔

اَب ہم لفظ النَّبِىُّ پر علماء مفسرین اور علمائے لغت کی عبارات پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمایئے:

(۸) الامام محی السنۃ علاء الدین علی بن محمد المعروف بالخازن وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ کے تحت فرماتے ہیں:

اَلنَّبِىُّ مَعْنَاهُ اَلْمُخْبِرُ مِنْ اَنْبَاَ يُنْبِىْ، وَقِيْلَ هُوَ بِمَعْنَى الرَّفِيْعِ مَا خُوْذٌ مِنَ النُّبُوَّةِ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ

انتہیٰ(خازن، جلد ۱، صفحہ ۵۴)

WWW.NAFSEISLAM.COM

یعنی ''النّبی'' کے معنی ہیں (خبر دینے والا) یہ اَنْبَأَ ،یُنْبِیُّ سے ماخوذ ہے اور کہا گیا کہ وہ الرّ فیع (بلند رتبہ) کے معنٰی میں ہے، النَّبْوَۃُ سے ماخوذ ہے جس کے معنی بلند جگہ کے ہیں۔ انتھٰی۔

(۹) علامہ نسفی نے وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ کے تحت فرمایا: بِالْهَمْزَةِ نَافِعٌ وَكَذَا بَابَهُ۔ انتھٰی۔ (مدارك، ج ۱، ص ٥٤)

یعنی النَّبِيّٖنَ ہمزہ کے ساتھ ہے اور یہ نافع کی قراءۃ ہے۔

نافع نے لفظ النّبی کو پورے قرآن کریم میں ہمزہ کے ساتھ پڑھا، خواہ مفرد ہو یا جمع۔

(۱۰) شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت فرمایا:

قَرَأَ نَافِعٌ بِهَمْزَةٍ "النَّبِيْئِيْنَ" "وَالنَّبِيْءُ" "وَالْاَنْبِيَاءَ" "وَالنُّبُوْءَةَ" وَتَرَكَ الْقَالُوْنُ الْهَمْزَةَ فِي الْاَحْزَابِ "لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ" "وَبُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا" (الآية) فِي الْوَصْلِ خَاصَّةً بِنَاءً عَلٰى اَصْلِهٖ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمَكْسُوْرَتَيْنِ وَاِذَا كَانَ مَهْمُوْزًا فَمَعْنَاهُ الْمُخْبِرُ مِنْ اَنْبَأَ يُنْبِئُ وَنَبَّأَ يُنَبِّئُ وَالْبَاقُوْنَ بِتَرْكِ الْهَمْزَةِ فَحِيْنَئِذٍ تَرْكُ الْهَمْزَةِ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِلتَّخْفِيْفِ لِكَثْرَةِ الْاِسْتِعْمَالِ اَوْيَكُوْنَ مَعْنَاهُ الرَّفِيْعُ مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ . انتھٰی (تفسیر مظهری، جلد ۱، ص ٧٦)

امام نافع نے ''اَلنَّبِيْئِيْنَ'' ''اَلنَّبِيْءُ'' ''اَلْاَنْبِيَاءَ'' اور ''اَلنُّبُوْءَة'' کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا، اُن کے شاگرد قالون نے سورۃ احزاب کی دو آیتوں ''لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ'' اور ''بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا'' میں خاص حالتِ وصل میں ہمزہ ترک کر دیا، اپنے اس قاعدہ کے مطابق کہ جب دو ہمزہ مکسور جمع ہو جائیں، تو پہلے کو ''یا'' سے بدل دیا جاتا ہے، (چونکہ یہاں اس سے پہلے ''یا'' تھی، اس لئے اُسے ''یا'' میں مدغم کر دیا) تو جب لفظ ''نبی'' مہموز یعنی ہمزہ کے ساتھ ہو تو اُس کے معنی ''مخبر'' ہیں، اَنْبَأَ، يُنْبِئُ، نَبَّأَ، يُنَبِّئُ سے ماخوذ ہے اور ائمہ قرّاء نے ترکِ ہمزہ کے ساتھ پڑھا، اُس وقت ترکِ ہمزہ کثرتِ استعمال کی وجہ سے تخفیف کے لئے ہوگا یا اس کے معنی الرّفیع (بلند مرتبہ) ہوں گے، نبوۃ سے ماخوذ ہوگا اور اس کے معنی بلند مقام کے ہیں۔ انتھٰی۔

(۱۱) امام قرطبی فرماتے ہیں:

وَقَرَأَ نَافِعٌ "النَّبِيْئِيْنَ" بِالْهَمْزِ حَيْثُ وَقَعَ فِي الْقُرْاٰنِ اِلَّا فِيْ مَوْضِعَيْنِ فِيْ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ "اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَدَ" وَ"لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ" فَاِنَّهٗ قَرَءَ بِلَا مَدٍّ وَلَاهَمْزٍ، وَاِنَّمَا تَرَكَ هَمْزَ هٰذَيْنَ لِاِجْتِمَاعِ هَذَيْنِ مَكْسُوْرَتَيْنِ وَتَرَكَ الْهَمْزَةَ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ الْبَاقُوْنَ، فَاَمَّا مَنْ هَمَزَ فَهُوَ عِنْدَهٗ مِنْ اَنْبَأَ اِذَا اَخْبَرَ وَاسْمُ فَاعِلِهٖ مُنْبِئٌ وَقَدْ جَاءَ فِيْ جَمْعِ نَبِيْءٌ نُبَآءُ.

وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ يَمْدَحُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

يَا خَاتَمَ النُّبَآءِ اِنَّكَ مُرْسَلٌ

بِالْحَقِّ كُلُّ هُدَى السَّبِيْلِ هُدَاكَا

هٰذَا مَعْنٰی قِرَأَةِ الْهَمْزِ، وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُوْنَ بِتَرْکِ الْهَمْزِ، فَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَقَّ اِشْتِقَاقَ مَنْ هَمَزَ، ثُمَّ سَهَّلَ الْهَمْزَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ نَبَا یَنْبُوْا اِذَا ظَهَرَ، فَالنَّبِیُّ مِنَ النُّبُوَّةِ وَهُوَ الْاِرْتِفَاعُ فَمَنْزِلَةُ النَّبِیِّ رَفِیْعَةٌ.

اور امام نافع نے النَّبِیْئِیْن ہمزہ کے ساتھ پڑھا، جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ واقع ہوا، سوا دو جگہ کے، سورۂ احزاب کی آیت ''اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ اِنْ اَرَادَ'' اور ''لَا تَدْخُلُوْا بُیُوْتَ النَّبِیِّ اِلَّا اَنْ یُّؤْذَنَ لَکُمْ'' انہوں نے ان دونوں آیتوں میں لفظ النبی مد اور ہمزہ کے بغیر پڑھا، جہاں اُن کا ترکِ ہمزہ صرف اس لئے ہے کہ ان دونوں آیتوں میں دو ہمزہ مکسور جمع ہوئے، باقی قرأء نے ترکِ ہمزہ کے ساتھ النَّبِیُّوْن پڑھا، جنہوں نے ہمزہ کے ساتھ پڑھا، اُن کے نزدیک لفظ ''نبی'' انبأ سے ماخوذ ہے، اس کا اسم فاعل مُنْبِئٌ ہے اور نبی کی جمع صرف انبیاء آتی ہے اور ہمزہ کے ساتھ نبیءٌ کی جمع نُبَآءُ بھی آتی ہے، حضرت عباس مرداس سلمی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے کہا ؎

Nafse Islam

یَا خَاتَمَ النُّبَآءِ اِنَّکَ مُرْسَلٌ

بِالْحَقِّ کُلُّ هُدَی السَّبِیْلِ هُدَاکَا

(یعنی اے خاتم النّبیین بے شک آپ رسول برحق ہیں، راہِ نجات کی ہر ہدایت آپ کی ہدایت ہے)

یہ معنی قرأۃ بالہمزہ کے ہیں اور ترکِ ہمزہ کے قائلین میں اختلاف ہے، بعض نے اس کا اشتقاق ہمزہ سے مانا، پھر ہمزہ کی تسہیل کردی اور بعض نے کہا نَبَا یَنْبُوْ سے مشتق ہے جس کے معنی ظَهَرَ ہیں اور نبی نَبْوَۃ سے ماخوذ ہے، نَبْوَۃٌ کے معنی ہیں ''بلندی'' لہٰذا نبی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔

نفس اسلام

آگے چل کر فرمایا:

WWW.NAFSEISLAM.COM

وَیُرْوٰی اَنَّ رَجُلًا لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَانَبِیْئَ اللّٰهِ: وَهَمَزَ: فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ بِنَبِیْئِ اللّٰهِ، وهَمَزَ وَلٰکِنِّی نَبِیُّ اللّٰهِ وَلَمْ یَهْمِزْ قَالَ اَبُوْ عَلِیٍّ ضُعِّفَ سَنَدُ هٰذَا الْحَدِیْثِ وَمِمَّا یُقَوِّیْ ضُعْفَهٗ اَنَّهٗ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَدْ اَنْشَدَهُ الْمَادِحُ، یَا خَاتَمَ النُّبَآءِ ...... وَلَمْ یُؤْثَرْ فِیْ ذٰلِکَ اِنْکَارٌ.

مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا: اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیْئَ اللّٰهِ اور لفظ نبی کو ہمزہ سے ادا کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا! میں ہمزہ کے ساتھ نبیءُ اللّٰه نہیں، بلکہ میں ہمزہ کے بغیر نبیّ اللّٰه ہوں، ابو علی نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے، امام قرطبی نے فرمایا اس حدیث کے ضعیف ہونے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضور کی مدح کرنے والے شاعر (صحابی) نے حضور کو مخاطب کر کے یَا خَاتَمَ النُّبَآءِ کہا (جب کہ نُبَآء صرف ہمزہ کے ساتھ لفظ نبی کی جمع کے لئے آتا ہے) اور اس میں حضور کا انکار منقول نہیں ہوا، انتہٰی (قرطبی، ج ۱، ص ۴۳۱)

امام قرطبی کی اس عبارت سے لفظ نبی کی قرأۃ بالہمزہ اور انباء سے اس کے مشتق ہونے پر روشنی پڑنے کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آگئی کہ وہ مخبر کے معنی میں ہے اور لفظ انبیاء نبی بالہمزہ اور بغیر ہمزہ دونوں کی جمع ہے اور یہ بھی ثابت ہوگیا کہ صحابی نے نبی کو مخاطب کر کے ہمزہ کے ساتھ ''خَاتَمَ النُّبَآءِ'' کہا ہے، اگر یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتا تو

فوراً انکار کر دیتے، سب سے اہم بات جو امام قرطبی کی اس عبارت سے ثابت ہوئی یہ ہے کہ جس روایت میں رجل اعرابی کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار فرمانا منقول ہے، صحیح نہیں، بلکہ ضعیف ہے اور اس کے ضعف کی دلیل حضرت عباس بن مرداس کا مذکورہ بالا شعر ہے۔

مخفی نہ رہے کہ امام قرطبی کے مطابق اعرابی کی روایتِ مذکورہ کو دیگر علماء بالخصوص ائمۂ لغت نے بھی امام حاکم کی تصحیح کے باوجود ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ امام حاکم محدثین کے نزدیک تصحیح میں متساہل ہیں جیسا کہ ان شاء اللہ ائمۂ لغت کی عبارات کے ضمن میں ہم اس پر دلائل قائم کریں گے۔

معاند کی یہ انتہائی خیانت ہے کہ اُس نے ائمۂ لُغت کی عبارات سے وہ حصہ نقل کیا جو اُسے مفیدِ مطلب نظر آیا، حالانکہ وہ ہرگز اُسے مفید نہیں، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

(۱۲) امام اثیر الدین ابو عبداللہ محمد بن یوسف الشہیر بأبی حیان (اندلسی) اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

وَقَرَأَ نَافِعٌ بِهَمْزِ النَّبِيْئِيْنَ وَالنَّبِيْئُ وَالْاَنْبِيَاءِ وَالنُّبُوْءَةُ اِلَّا اَنَّ قَالُوْنَ اَبْدَلَ وَاَدْغَمَ فِي الْاَحْزَابِ فِيْ "وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ" وَفِيْ "لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ" فِي الْوَصْلِ وَقَرَأَ جُمْهُوْرُ بِغَيْرِ هَمْزٍ. انتهٰی. (البحر المحیط، ج ۱، ص ۳۷)

یعنی نافع نے النّبِیْئِین اور النّبیٔ اور الانبیاء اور النبوۃ سب کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا، لیکن قالون نے سورۂ احزاب کی دو آیتوں "وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِى" اور لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِى میں حالتِ وصل میں ابدال اور ادغام کیا اور جمہور نے بغیر ہمزہ کے پڑھا۔ انتہیٰ۔

حضرات محدثین اور ائمہ لُغتِ حدیث نے بھی لفظِ نبی کو نبأ سے ماخوذ مانا ہے اور نبی کے معنیٰ مخبر عن اللہ اور نبوۃ کے معنیٰ اطلاع علی الغیب لکھتے ہیں۔

(۱۳) محدّثِ جلیل امام لُغتِ حدیث علامہ الشیخ محمد طاہر صاحب "مجمع بحار الانوار" لفظِ نبی اللہ کے تحت فرماتے ہیں:

هُوَ بِمَعْنٰى فَاعِلٍ مِنَ النَّبَأِ" اَلْخَبَرِ لِاَنَّهٗ اَنْبَأَ عَنِ اللّٰهِ يَجُوْزُ تَخْفِيْفُ هَمْزِهٖ وَتَحْقِيْقُهَا۔

(یعنی لفظِ نبی اللہ میں نبی فاعل کے معنیٰ میں ہے نَبَأٌ سے ماخوذ ہے، نبأ خبر کو کہتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی، لفظِ نبی کے ہمزہ کی تخفیف و تحقیق دونوں جائز ہیں)۔ اس کے بعد فرمایا:

وَقِيْلَ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ النَّبَاوَةِ وَهُوَ الشَّيْئُ اَلْمُرْتَفِعُ وَمِنَ الْمَهْمُوْزِ شِعْرُ ابْنِ مِرْدَاسٍ "يَاخَاتَمَ النُّبَآءِ اِنَّكَ مُرْسَلٌ" انتهٰی (مجمع بحار الانوار، ج ۳، ص ۳۲۹)

(یعنی بعض نے کہا نباوۃ سے مشتق ہے اور وہ شئے مرتفع ہے اور مہموز سے عباس بن مرداس کا یہ شعر ہے: يَاخَاتَمَ النُّبَآءِ اِنَّكَ مُرْسَلٌ" "اے خاتم النبیین! بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں)

یہ پورا شعر ہم قرطبی کے حوالہ سے نقل کر چکے ہیں، جس کو انہوں نے ایک اعرابی کے يَا نَبِيْئَ اللّٰهِ کہنے اور نبیٔ بالہمزہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انکار کی روایت کے ضعیف ہونے کی تائید میں نقل کیا ہے، صاحب مجمع بحار الانوار نے بھی نقل کر کے اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کر دیا، جس کی تائید مزید وضاحت کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ "تاج

العروس“ کی عبارات سے قارئین کے سامنے آرہی ہے۔

(۱۴) متکلمین نے بھی نبی اصطلاحی کو نبأ سے مشتق مانا ہے، شرح مواقف میں ہے:

”اَلنَّبِیُّ“ وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ النَّبَأ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ مَهْمُوْزٌ لٰكِنَّهُ يُخَفَّفُ وَ يُدْغَمُ وَهٰذَا الْمَعْنٰى حَاصِلٌ لِمَنِ اشْتَهَرَ بِهٰذَا الْاِسْمِ لِاَنْبَائِهٖ عَنِ اللهِ تَعَالٰى، وَقِيْلَ النَّبِيُّ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ النَّبْوَةِ وَهُوَ الْاِرْتِفَاعُ. انتھٰی

(شرح مواقف ، ج ۸، ص ۲۱۷)

(اَلنَّبِیُّ کا اشتقاق نبأ سے ہے، ایسی صورت میں وہ مہموز ہے، لیکن اسے مخفف اور مدغم کردیا جاتا ہے اور یہ معنٰی ہر اُس مقدس انسان کے لئے حاصل ہیں جو نبی کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ وہ اللہ تعالٰی کی طرف سے خبر دیتا ہے، اور کہا گیا کہ النبی، النبوۃ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں بلند ہونا۔ انتھٰی۔)

(۱۵) شرح عقائدِ نسفی کے شارح علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۲۳۹ھ) نے لفظ نبی کے اشتقاق میں متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد بطورِ محاکمہ ”شرح الشافیہ“ کی عبارت نقل کرتے ہوئے فرمایا:

جَاءَ النَّبِیُّ مَهْمُوْزًا فِی الْقِرَاءٰتِ السَّبْعِ وَالثَّانِیْ بِاَنَّ الْحَدِيْثَ غَيْرُ صَحِيْحٍ وَاِنْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ لِاَنَّ فِیْ سَنَدِهٖ حَمْرَانَ مِنْ غُلَاةِ الشِّيْعَةِ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَعَلَّ الْاَعْرَابِیَّ اَرَادَ اشْتِقَاقَهٗ مِنْ نَبَأْتُ الْاَرْضَ اِذَا خَرَجْتَ مِنْهَا اِلَی الْاُخْرٰی۔ (نبراس ،ص ۸)

(یعنی لفظ ”النّبی“ ہمزہ کے ساتھ قراءاتِ سبعہ میں سے ہے اور دوسرے یہ کہ اعرابی کی حدیث صحیح نہیں، اگرچہ اسے حاکم نے روایت کیا، کیونکہ اس کی سند میں حمران ہے، جو غلاۃ شیعہ سے ہے اور اگر بالفرض اس روایت کو تسلیم بھی کرلیا جائے، تو اعرابی کے نبیء اللہ کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا انکار اس لئے نہیں تھا کہ لفظِ نبی مہموز نہیں، بلکہ اعرابی نے عرب کے ایک محاورے ”نَبَاءْتُ الْاَرْضَ“ (میں ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف نکلا) سے اخذ کرکے خارج کے معنٰی میں ہمزہ کے ساتھ حضور کو نبیٔ کہا تھا، جس پر حضور نے انکار فرمایا۔ انتھٰی)

اس عبارت سے واضح ہوگیا کہ نبیٔ ہمزہ کے ساتھ نبأ سے ماخوذ ہے اور یہ قراءاتِ سبعہ میں سے ہے، اعرابی کی حدیث سے اس کے خلاف استدلال صحیح نہیں، کیونکہ وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے خود غیر صحیح ہے۔

(۱۶) لغتِ قرآن کے امام علامہ راغب اصفہانی ”نبوۃ“ کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اَلنُّبُوَّةُ سِفَارَةٌ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ ذَوِی الْعُقُوْلِ مِنْ عِبَادِهٖ بِاِزَاحَةِ عِلَّتِهِمْ فِیْ اَمْرِ مَعَادِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَ النَّبِیُّ لِكَوْنِهٖ مُنَبِّأً بِمَا تَسْكُنُ اِلَيْهِ الْعُقُوْلُ الذَّكِيَّةُ وَهُوَ يَصِحُّ اَنْ يَّكُوْنَ فَعِيْلًا بِمَعْنَی الْمَفْعُوْلِ لِقَوْلِهٖ نَبَّأَنِیَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ۔ (مفردات، ص ۴۹۹)

(نبوۃ اللہ تعالٰی اور اُس کے ذوی العقول بندوں کے درمیان سفارت کا نام ہے جو اُن کے تمام دنیوی اور اُخروی امور سے ہر قسم کی خرابی دُور کرنے کے لئے ہوتی ہے، اور اس کو نبی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی خبریں دیتا ہے جن کی وجہ سے پاکیزہ عقول کو تسکین و طمانیت حاصل ہوتی ہے، لفظِ نبی کا فَعِیْل بمعنی فَاعِل ہونا بھی صحیح ہے، جس کی دلیل یہ دو آیتیں ہیں: ”نَبِّئْ عِبَادِیْ“ (میرے بندوں کو خبر دیجئے) اور قُلْ اَؤُنَبِّئُكُم (فرمادیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں؟) اور بمعنی مفعول بھی ہوسکتا

ہے جس کی دلیل ''نَبَّانِیَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ'' ہے (یعنی علیم، خبیر نے مجھے خبر دی)

اس کے بعد فرماتے ہیں:

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَآءِ هُوَ مِنَ النُّبُوَةِ اَیِ الرِّفْعَةِ وَسُمِّیَ نَبِیًّا لِرِفْعَةِ مَحَلِّهٖ عَنْ سَائِرِ النَّاسِ الْمَدْلُوْلِ عَلَیْهِ، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِیًّا، فَالنَّبِیُّ بِغَیْرِ اَبْلَغُ مِنَ النَّبِیْٓءِ بِالْهَمْزِ لِاَنَّهٗ لَیْسَ كُلُّ مُنَبَّاٍ رَفِیْعَ الْقَدْرِ وَالْمَحَلِّ۔

(بعض علماء نے کہا کہ لفظِ نبی نبوۃ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں ''رفعة'' اور وہ نبی کے نام سے اس لئے موسوم ہوا کہ باقی سب لوگوں سے اس کا مقام بلند ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا قول '' وَرَفَعْنَاهُ مكاناً عَلِیًّا '' دلالت کرتا ہے، لہٰذا نبی بغیر ہمزہ کے ہمزہ کے ساتھ لفظ نبیء سے ابلغ ہے، کیونکہ ہر مُنَبَّیٌ (خبر دیئے والا) رفیع القدر والمحل نہیں ہوتا۔ انتہٰی)۔

(مفردات، ص ۵۰۰)

یہاں زیادۃ معنی کی وجہ سے لفظ ''ابلغ'' استعمال ہوا ہے، بلاغت کے اعتبار سے نہیں، جیسا کہ معاند نے سمجھا، کیونکہ بلاغت کلمہ کی صفت نہیں، بلکہ کلام کی صفت ہے۔

(۱۷) دیکھئے قاضی بیضاوی نے الرحمن کو الرحیم سے محض زیادۃِ معنی کی وجہ سے ابلغ کہا ہے۔ (بیضاوی، ص۵)

اس کے بعد لفظ ''النبی'' کے ماخذ اشتقاق اور اس کے معنٰی کی وضاحت کے لئے ہم ائمۂ لغت عرب کی عبارات ہدیۂ ناظرین کرتے ہیں۔

(۱۸) امام لغت صاحبِ قاموس فرماتے ہیں:

وِالنَّبِیُّ اَلْمُخْبِرُ عَنِ اللهِ تَعَالٰی وَتَرْكُ الْهَمْزِ اَلْمُخْتَارُ جَمْعُهٗ اَنْبِیَاءُ وَنُبَآءُ وَاَنْبَاءُ''وَالنَّبِیُّوْنَ'' وَالْاِسْمُ اَالنُّبُوَّةُ۔ انتھٰی (القاموس المحیط، ج ۱، ص ۲۹)

(یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والے کو ''نبیؐ'' کہتے ہیں اور ہمزہ کا ترک مختار ہے، اس کی جمع اَنْبِیَاءُ وَنُبَآءُ وَاَنْبَاءُ اور اَلنَّبِیُّوْن اور اسم اَلنُّبُوَّةُ ہے۔ انتھٰی۔

صاحب قاموس کے علاوہ بعض دیگر علماء اور ائمۂ لغت نے بھی ترکِ ہمزہ کو مختار کہا ہے جس کے معنی معاند نے غلط سمجھے، ترکِ ہمزہ کا مختار ہونا محض کثرتِ استعمال میں تخفیف کی وجہ سے ہے، ورنہ تواتر کے اعتبار سے لفظ النبی بالھمزہ اور بلا ہمزہ دونوں مختار ہیں، کیونکہ دونوں قرأتِ سبعہ متواترہ میں سے ہیں، جیسا کہ ائمۂ مفسرین کی عبارات سے ہم ثابت کر چکے ہیں اور اس پر مزید کلام آگے بھی آ رہا ہے۔

تنبیہ ضروری؛ قاضی بیضاوی نے مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ میں مَالِكِ کی قرأۃ پر مَلِكِ کی قرأۃ کو ترجیح دیتے ہوئے ''وَهُوَ الْمُخْتَارُ'' کہا۔

(۱۹) جس پر محشی نے علامہ شہاب الدین خفاجی سے نقل کرتے ہوئے لکھا:

اَلْاَوْلٰی اَنْ لَّا یُوْصَفَ اَحَدُهُمَا بِالْمُخْتَارِ لِمَا یُوْهِمُ اَنَّ الْاُخْرٰی بِخَلَافِهٖ مَعَ اَنَّ الْقِرَاءَتَیْنِ مُتَوَاتِرَتَانِ۔

WWW.NAFSEISLAM.COM

(یعنی بہتر یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک قرأۃ کو مختار نہ کہا جائے، کیونکہ اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ دوسری قرأۃ مختار نہیں، باوجودیکہ دونوں قرأتیں متواترہ ہیں۔ (بیضاوی حاشیہ۵، ص۷)

(۲۰) شیخ زادہ نے بھی قاضی بیضاوی کے قول وھو المختار پر کلام کرتے ہوئے لکھا کہ مصنف نے اپنی قرأۃ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْن کو مختار کہہ کر اُسے ترجیح دی اور اسی طرح مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْن کی قرأۃ والوں نے اپنی قرأۃ کو دوسری قرأۃ پر ترجیح دی اور ایسی ترجیح جس سے دوسری قرأۃ کا ساقط ہونا ظاہر ہوتا ہے: ''وَهٰذَا غَيْرُ مَرْضِيٍّ لِاَنَّ كِلْتَيْهِمَا مُتَوَاتِرَة''یعنی یہ ناپسندیدہ ہے، اس لئے کہ دونوں قرأتیں متواتر ہیں۔

معلوم ہوا کہ دو متواتر قرأتوں میں سے ایک قرأۃ کو اس طرح ترجیح دیتے ہوئے مختار کہنا کہ دوسری قرأۃ کا غیر مختار ہونا ظاہر ہوتا ہو یا اس کا وہم پیدا ہوتا ہو، پسندیدہ نہیں۔

معاند کی جسارت ملاحظہ فرمائیے کہ اُس نے نبیٌ ، بِالْهَمْزه کی قرأۃ متواترہ کو فصاحت وبلاغت کے خلاف سمجھا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اُسے لُغتِ ردی قرار دے کر بالکل ہی ساقط کردیا، جب کہ نبیٌ بالہمزہ اور بلا ہمزہ دونوں قرأتیں متواترہ ہیں۔

ہمزہ کے ساتھ النبی اُمام نافع کی قرأۃ ہے جو قراءآتِ سبعہ متواترہ سے ہے، جیسا کہ ہم تفسیر قرطبی، تفسیر مدارک، تفسیر مظہری اور تفسیر بحرِ محیط کی عبارات سے ثابت کرچکے ہیں۔

(۲۱۔۲۲) ائمۂ قُرّاء سبعہ اور اُن کی قراءآت کا بیان اور یہ کہ امام نافع قُرّاء سبعہ میں شامل ہیں اور اہل مدینہ نے ان کی قرأۃ کو اختیار کیا، نہایت بسط وتفصیل کے ساتھ تفسیرِ اتقان، جزء اوّل، ص۸۲ اور مناہل العرفان، جزء اوّل، ص۴۰۹ میں مرقوم ہے۔

(۲۳) تفسیر اتقان، جزء اوّل، ص۸۳ میں یہ تصریح بھی موجود ہے:

لِاَنَّ السَّبْعَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيْ تَوَاتُرِهَا (یعنی قراءآتِ سبعہ کے متواتر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔

(۲۴۔۲۵) لسان العرب، جلد۱، ص۱۶۳، تاج العروس، جلد۱، ص۱۲۲ میں ہے :

وَقَالَ الْفَرَّاءُ النَّبِيُّ هُوَ مَنْ اَنْبَأَ عَنِ اللهِ فَتَرَكَ هَمْزَهُ قَالَ وَ اِنْ اُخِذَتْ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالنَّبَاوَةِ وَهِيَ الْاِرْتِفَاعُ اَيْ اَنَّهُ اَشْرَفَ عَلٰى سَائِرِ الْخَلْقِ فَاَصْلُهُ غَيْرُ الْهَمْزِ ۔ انتھٰی

سیبویہ کے نزدیک بھی لفظِ ''نبی ''اصل میں مہموز اللام ہے۔

(۲۶) دیکھئے شرح شافیہ میں ہے :

وَكَذَا النَّبِيُّ اَصْلُهُ عِنْدَ سِيْبُوَيْهِ الْهَمْزُ (شرح شافیه، جلد اوّل، ص۲۱۲، طبع بیروت)

(نبی کی اصل سیبویہ کے نزدیک ہمزہ کے ساتھ ہے)

(۲۷) صاحبِ نبراس نے بھی فرمایا کہ سیبویہ اور دیگر محققین کا مذہب یہ ہے کہ نبی (بالہمزۃ) مہموز اللام ہے (نبراس، ص۸)

سیبویہ کا یہ مذہب مذکور کہ لفظِ نبی ماخذ نبأ ہے اور مہموز اللام ہے۔

NafseIslam نفس اسلام WWW.NAFSEISLAM.COM

(۲۸_۲۹) لسان العرب، جلد اوّل ص ۱۶۳، تاج العروس، ج ۱ص ۱۲۱_۱۲۲ میں تفصیل کے ساتھ مرقوم ہے،

اسی وضاحت کے ضمن میں علامہ زبیدی نے فرمایا :

”قَالَ سِيْبُوَيهِ لَيْسَ اَحَدٌ مِّنَ الْعَرَبِ اِلَّا وَيَقُوْلُ تَنَبَّأَ مُسَيْلَمَةُ بِالْهَمْزِ غَيْرَ اَنَّهُمْ تَرَكُوْا فِى النَّبِيِّ الْهَمْزَ“۔

(یعنی سیبویہ نے کہا کہ عرب کا ہر شخص ”تَنَبَّأَ مُسَيْلَمَةُ“ ہمزہ کے ساتھ کہتا ہے، بجز اُس کے کہ انہوں نے ”النّبی“ میں ہمزہ ترک کردیا ہے۔

معاند نے ”تاج العروس“ سے سیبویہ کا مذہب نقل کرتے ہوئے انتہائی خیانت اور عبارت میں قطع بُرید سے کام لیا۔

(۳۰) تاج العروس کی اصل عبارت یہ ہے :

”وَقَالَ سِيْبُوَيْهِ اَلْهَمْزُ فِى النَّبِيِّ لُغَةٌ رَدِيَّةٌ يَعْنِى لِقِلَّةِ اِسْتِعْمَالِهَالَالِاَنَّ الْقِيَاسَ يَمْنَعُ مِنْ ذٰلِكَ.

انتھٰی (تاج العروس، ج ۱، ص ۱۲۲)

یعنی سیبویہ نے کہا کہ لفظ نبیء میں ہمزہ لغتِ ردیہ ہے، یعنی اس کی قلّتِ استعمال کی وجہ سے، نہ اس لئے کہ قیاس اس سے روکتا ہے۔

معاند نے لُغتِ ردیہ کے بعد کی عبارت نقل نہیں کی اور از روئے خیانت اُسے چھوڑ دیا، کیونکہ لفظِ ردیہ کے معنی پر اُس سے روشنی پڑتی تھی۔

صاحبِ تاج العروس نے ”یعنی لقلّة استعمالها“ کہہ کر سیبویہ کی مراد ظاہر کی کہ صرف قلّتِ استعمال کی بنا پر اُسے لغتِ ردیہ کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ قیاس اُس سے روکتا ہو۔

(۳۱) لسان العرب میں بھی یہی عبارت بلفظہا مرقوم ہے (لسان العرب، ج ۱، ص ۱۶۲)

معاند کے ہاتھ کی صفائی دیکھئے کہ دونوں کتابوں کی عبارتِ منقولہ نقل نہیں کی، بلکہ صرف لغت ردیہ کا لفظ نقل کردیا، محض یہ تاثر دینے کے لئے کہ ہمزہ کے ساتھ لفظ نبیٌٔ ردی ہونے کی وجہ سے لُغتِ قرآن نہیں ہوسکتا۔

اسی طرح زجّاج کے قول میں ”وَالْاَجْوَدُتَرْکُ الْهَمْزِ“ کے معنی بھی یہ نہیں کہ ہمزہ کے ساتھ ”اَلنَّبِیُٔ“ جید نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ اجود محض کثیر الاستعمال ہونے کے معنٰی میں ہے۔

سیبویہ اور زجاج دونوں کے قول کی مراد ظاہر ہے، سیبویہ نے ہمزہ کے ساتھ النّبِیُٔ کو قلیل الاستعمال کہا اور زجاج نے بغیر ہمزہ کے لفظ نبـــیّ کو اجود کہہ کر کثیر الاستعمال قرار دیا جسے معاند نے اپنی جہالت سے جید کے خلاف سمجھا اور یہ نہ دیکھا کہ زجاج نے خود وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ اہل مدینہ کی ایک جماعت نے ہمزہ کے ساتھ ”الــنـبـی“ پڑھا اور پورے قرآن میں اُن کی ”قراۃ النبی“ کے ہمزہ کے ساتھ ہے۔

(۳۲) علّامہ زبیدی تاج العروس میں النّبیُٔ کے تحت فرماتے ہیں :

وَ فِى النِّهَايَةِ فَعِيْلٌ بِمَعْنٰى فَاعِلٍ لِلْمُبَالَغَةِ مِنَ النَّبَأ ”اَلْخَبَرِ لِاَنَّهٗ “اَنْبَاءَ عَنِ اللهِ اَىْ اَخْبَرَ قَالَ وَيَجُوْزُ فِيْهِ تَحْقِيْقُ الْهَمْزِ وَتَخْفِيْفُهٗ يُقَالُ نَبَاءَ وَاَنْبَاءَ. انتھٰی۔(تاج العروس، ج ۱، ص ۱۲۱)

Nafse Islam نفس اسلام WWW.NAFSEISLAM.COM

(یعنی نہایہ میں ہے کہ نبیٌّ، فعیلٌ کے وزن پر فَاعِلٌ کے معنی میں ہے، مبالغہ کے لئے یہ نَبَأٌ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں خبر، اس لئے کہ نبی نے اللہ کی طرف سے خبر دی، صاحب نہایہ نے کہا کہ لفظِ نبی میں ہمزہ کی تحقیق اور تخفیف دونوں جائز ہیں، محاورہ عرب میں کہا جاتا ہے: نَبَأٌ، وَنَبَأٌ، وَاَنْبَاءَ یعنی اُس نے خبر دی۔ انتھٰی)

معاند کی ایک اور خیانت ملاحظہ فرمایئے: کنز العمال سے حدیثِ اعرابی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا ''اے غیب داں! حضور نے فرمایا! میں غیب داں نہیں، میں تو رفیع المنزلۃ ہوں''۔

کنز العمال اُٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ اعرابی نے حضور کو ''غیب داں'' کہا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر انکار فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں تو ''رفیع المنزلۃ'' ہوں، یہ وہی حدیث ہے جس کا ذکر بار بار آچکا ہے اور اعرابی نے یَا خَارِجُ مِنْ مَکَّۃَ اِلَی الْمَدِیْنَۃِ کے معنٰی مراد لے کر حضور کو ہمزہ کے ساتھ نبیٔ اللہ کہا تھا، اسی معنی کے مراد لینے کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر انکار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ہمزہ کے ساتھ نبیٔ اللہ نہیں، بلکہ میں ہمزہ کے بغیر نبیّ اللہ ہوں۔

اگر معاند نے طنزاً ایسا لکھا ہے، تب بھی واقعہ کے اعتبار سے یقیناً یہ بہتان ہے، کیونکہ اس کا یہ لکھنا قطعاً خلافِ واقع ہے۔

معاند کو معلوم ہونا چاہیئے کہ آج تک کسی بھی اہلِ حق نے نبی کا ترجمہ ''غیب داں'' کے لفظ سے نہیں کیا، نبی اس مقدس انسان کو کہتے ہیں جو مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی خبریں دینے والا بلند مرتبہ ہو۔

اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظِ نبی کا ترجمہ فرماتے ہوئے جہاں بھی غیب کی خبریں دینے والا ارقام فرمایا، تو ان ہی مرادی معنی کے لحاظ سے ہے اور ان معنی کے پیشِ نظر اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ صحیح ہے، اگرچہ ہم نے اپنے ترجمہ (البیان) میں محض اختصار کے پیشِ نظر یہ ترجمہ نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید میں جہاں بھی لفظِ نبی آیا ہے، ہمارے نزدیک اس کے مرادی معنٰی یہی ہیں جن کی صحت پر ہماری منقولہ عبارات اور اُن کے علاوہ قرآنی آیات شاہدِ عادل ہیں۔

WWW.NAFSEISLAM.COM

(۳۳) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

ذٰلِکَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْہِ اِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرمارہے ہیں۔

(۳۴) اسی طرح تِلْکَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْھَا اِلَیْکَ یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، نیز ارشاد فرمایا:

(۳۵) نَبِّئْ عِبَادِیْٓ اَنِّیْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں ہی غفورٌ رّحیم ہوں۔

معاند نے ہماری تمام عباراتِ منقولہ اور آیاتِ قرآنیہ کو نظر انداز کر کے کہہ دیا کہ اصطلاحی نبی نَبَأ سے ماخوذ نہیں اور نبی اصطلاحی کے معنی مخبر عن اللہ نہیں، بلکہ اس کے معنی رفیع المنزلۃ ہیں اور یہ نہ سوچا کہ نبی کا رفیع المنزلۃ ہونا اور اُس کا ایسا بلند مرتبہ والا ہونا کہ اس کے علاوہ اور کوئی انسان اس کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکے، اسی امر پر مبنی ہے کہ وہ مبعوث من اللہ ہو کر مخبر عن اللہ ہے، اسی لحاظ سے نبی ایسا رفیع المنزلۃ ہے کہ کوئی غیر نبی اس کے مقام کو نہیں پاسکتا، ورنہ محض مرتبہ کے اعتبار سے بلند

ہونا نبی کا خاصہ نہیں غیر نبی کے لئے بھی رفعتِ منزلت قرآن مجید سے ثابت ہے۔

(۳۶) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

یَرْفَعِ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وَالَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات۔

یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنین کاملین اور اہل علم کے درجے بُلند فرمائے گا اور اس میں شک نہیں کہ مومنین کاملین اور اہل علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا و آخرت میں بلند درجے رکھتے ہیں، دیکھئے صالحین اور اولیائے کرام کے درجے عامۃ المسلمین سے بُلند ہیں اور شہید کا درجہ بھی غیر شہید سے بُلند ہے، صدّیقین کے مراتب اور درجات شہداء سے بھی بلند ہیں، اور رفعتِ منزلت ان سب کے لئے ثابت ہے، لیکن نبی کی رفعتِ منزلت کو غیر نبی نہیں پاسکتا، اسی لئے ہم نے بار بار تنبیہ کی ہے کہ نبی کے مخبر عن اللہ اور رفیع المنزلۃ ہونے میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔

مگر افسوس کہ معاند نے نبی کے مخبر عن اللہ ہونے کی نفی کرتے ہوئے اسے صرف رفیع المنزلۃ قرار دے کر گویا اس کی رفعتِ منزلت کی بنیاد ہی کو ختم کردیا۔

معاند نے نبی کے مخبر عن اللہ ہونے کی نفی بڑے شدّ ومد سے کی ہے اور اس نفی پر حدیثِ اعرابی کا سہارا لیا ہے اور اس حدیث کے بارے میں، مستدرک سے امام حاکم کا یہ قول بھی نقل کیا ہے "صَحِیْحٌ عَلٰی شَرْطِ الشَّیْخَیْن" لیکن اپنے اس کلام میں ہر جگہ جہالت اور خیانت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تفسیر قرطبی سے نقل کرچکے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صاحب نبراس کی عبارت بھی ہم نے نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور "عَلٰی شَرْطِ الشَّیْخَیْن" اسے صحیح لکھا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے راویوں میں ایک راوی حمران ہے جو غلاۃ شیعہ سے ہے۔

(۳۷) علاوہ ازیں امام زبیدی صاحبِ تاج العروس نے اسی حدیثِ اعرابی کے بارے میں فرمایا :

"وَیَنْبَغِیْ اَنْ تَکُوْنَ رِوَایَۃُ اِنْکَارِہٖ غَیْرَ صَحِیْحَۃٍ عَنْہُ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ لِاَنَّ بَعْضَ شُعَرَائِہٖ وَھُوَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ السُّلَمِیُّ قَالَ یَاخَاتَمَ النُّبَآءِ وَلَمْ یَرِدْ عَنْہُ اِنْکَارُہٗ لِذَالِکَ۔

(یعنی مناسب یہ ہے کہ اعرابی کی حدیث جس میں نبی بالہمزہ کا انکار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، اسے غیر صحیح قرار دیا جائے، اس لئے کہ حضور کے شعراء میں سے عباس بن مرداس سُلمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرکے کہا : یَا خَاتَمَ النُّبَآءِ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا انکار وارد نہیں ہوا (جب کہ نُبَآءَ نَبِی کی جمع نہیں، بلکہ نبیءٌ بالہمزہ کی جمع ہے)

اس سے کچھ پہلے یہی امام زبیدی اس روایت کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ

(۳۸) اس حدیث کے رواۃ میں حسین جعفی ہے جو شیخین کی شرط پر نہیں۔

وَلِھٰذَا ضَعَّفَہٗ جَمَاعَۃٌ مِنَ الْقُرَّاءِ وَالْمُحَدِّثِیْنَ وَلَہٗ طَرِیْقٌ اٰخَرُ مُنْقَطِعٌ. انتھٰی

یعنی اسی لئے قُراء و محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کا ایک دوسرا طریق بھی ہے جو منقطع ہے۔ (تاج العروس، جلد ا، ص ۱۲۲)

رہا یہ امر کہ امام حاکم نے اس کو صحیح علیٰ شرط الشیخین کہا، تو یہ امام حاکم کا تساہل ہے۔

(۳۹) امام نووی تقریب میں فرماتے ہیں :

وَاعْتَنَى الْحَاكِمُ بِضَبْطِ الزَّائِدِ عَلَيْهِمَا وَهُوَ مُتَسَاهِلٌ

یعنی امام حاکم نے مستدرک میں کوشش کی کہ وہ شرطِ شیخین پر زائد حدیثیں ضبط کریں اور وہ حدیث کی تصحیح میں متساہل ہیں۔

(۴۰) امام سیوطی نے اس کے تحت تدریب الراوی میں فرمایا :

قَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ وَاِنَّمَا وَقَعَ لِلْحَاكِمِ التَّسَاهُلُ لِاَنَّهُ سَوَّدَ الْكِتَابَ لِيُنَقِّحَهُ فَاَعْجَلَتْهُ الْمَنِيَّةُ اه

یعنی شیخ الاسلام (حافظ ابن حجر عسقلانی) نے کہا کہ حاکم کے تساہل کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب مستدرک کا مسودہ تیار کیا تاکہ اس کی تنقیح کریں، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی موت واقع ہوگئی۔ (تدریب مع التقریب، ص ۵۲)

معاند نے ان تمام عبارات وتصریحاتِ علماء کو نظر انداز کر کے اپنی جہالت اور خیانت کا مظاہرہ کیا۔ وَاِلَی اللہِ الْمُشْتَکیٰ

بالفرض حدیث اعرابی کو تسلیم بھی کر لیا جائے، تب بھی وہ معاند کا سہارا نہیں بنتی، اس لئے کہ ہم علماء کی عبارات نقل کر کے بار بار تنبیہ کر چکے ہیں کہ اعرابی کے یَا نَبِیءَ اللہ ہمزہ کے ساتھ کہنے پر اس لئے حضور نے انکار نہیں فرمایا کہ اُس نے مخبرعن اللہ کے معنیٰ مراد لے کر حضور کو ہمزہ کے ساتھ نبیءَ اللہ کہا تھا، بلکہ صرف اس بناء پر حضور نے انکار فرمایا کہ اُس نے یَاخَارِجُ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِينَةِ کے معنیٰ مراد لے کر حضور کو ہمزہ کے ساتھ یا نبی اللہ کہا تھا۔

بعض علماء نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ لفظِ نبیٔ بالہمزہ لُغتِ قریش سے نہ تھا۔

(۴۱) یہ محض توہم ہے، امام زبیدی ''تاج العروس'' میں فرماتے ہیں:

وَالَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْجَوْهَرِيُّ وَالصَّاغَانِيُّ بِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنْكَرَهُ لِاَنَّهُ اَرَادَ يَا مَنْ خَرَجَ مَنْ مَّكَّةَ اِلَى الْمَدِينَةِ، لَا لِكَوْنِهِ لَمْ يَكُنْ مِّنْ لُغَتِهِ كَمَا تَوَهَّمُوْا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا فَاِنَّهُمْ اِنَّمَا نُهُوْا عَنْ ذَالِكَ لِاَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا يَقْصُدُوْنَ اِسْتِعْمَالَهُ مِنَ الرُّعُوْنَةِ لَا مِنَ الرِّعَايَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا اه

یعنی حدیث اعرابی میں ہمزہ کے ساتھ نبیءَ اللہ کہنے پر حضور کا انکار جوہری اور صاغانی کی تصریح کے مطابق صرف اس لئے تھا کہ اعرابی نے یَامَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِينَةِ کا معنیٰ مراد لے کر صرف ''خَارِجٌ'' کے معنیٰ میں حضور کو نبیءَ اللہ کہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار اس بناء پر نہ تھا کہ نبیٔ بالہمزہ حضور کی نعت میں نہیں تھا، جیسا کہ لوگوں نے وہم کیا، اس تصریح کی تائید اللہ تعالیٰ کے قول لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا سے ہوتی ہے، کیونکہ راعنا کہنے کی نہی صرف اس وجہ سے تھی کہ یہود رعایت کی بجائے رعونت سے مشتق کر کے حضور کو رَاعِنَا کہتے تھے، یہ بات ہمارے شیخ نے فرمائی اھ۔ (تاج العروس، ج ۱، ص ۱۲۲)

اس عبارت سے واضح ہوگیا کہ اگر حدیثِ اعرابی کو تسلیم بھی کر لیا جائے، تب بھی وہ معاند کا سہارا نہیں بنتی، کیونکہ جس معنی پر حضور نے انکار فرمایا، ان معنی میں لفظِ نبی قرآن وحدیث میں مستعمل نہیں ہوا، آخر میں معاند کا یہ کہنا کہ جوہری نے اپنی

صحاح میں نبی کو فعیل بمعنی مفعول نہ کہ بمعنی فاعل فرما کر ہماری تائید فرمائی، عجیب مضحکہ خیز ہے۔

جب اس لفظ **نبی** کو غیر جید غیر فصیح اور لغتِ ردی کہہ کر اسے ساقط کر دیا، تو اب جوہری کی عبارت سے اسے کیا فائدہ پہنچا؟ پھر یہ کہ جوہری نے فعیل بمعنٰی مفعول ضرور کہا، لیکن بمعنٰی فاعل کی نفی نہیں کی اور دیگر ائمۂ لغت کی تصریحات ہم اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں کہ انہوں نے بمعنی فاعل بھی کہا جو معاند کے مسلک کی نفیِ صریح ہے۔

اس کے بعد ہم معاند کی ایک اور جہالت وخیانت کا پردہ بھی چاک کر دینا چاہتے ہیں جس کا مظاہرہ اس نے ہمزہ کے ساتھ لفظ **نبیٔ** کی نفی کی تائید میں کیا ہے، کہتا ہے کہ قرآن مجید میں **نبی** بلا ہمزہ آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نبی بلا ہمزہ فرمایا، حدیث کی بحث تو ابھی تفصیل کے ساتھ قارئین کے سامنے آچکی ہے، رہا یہ امر کہ صحائفِ قرآنیہ میں نبی بلا ہمزہ آیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْن آیا ہے، مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْن نہیں آیا، اسی طرح خَاتَمَ النَّبِیِّیْن آیا ہے، خَاتِمَ النَّبِیِّیْن نہیں آیا، لیکن جب یہ ثابت ہوگیا کہ مَالِکِ اور مَلِکِ دونوں قرأتیں متواتر ہیں، نیز خَاتَم اور خَاتِم بھی ہر دو متواتر قرأتیں ہیں، تو اس کے بعد محض اس بنا پر کہ صحائفِ قرآنیہ میں صرف ایک قرأۃ لکھی ہے، دوسری متواتر قرأۃ کا انکار کسی اہل علم، بلکہ عام مسلمان کے نزدیک بھی جہالت کے سوا کچھ نہیں ہوسکتا۔

ہم ثابت کر چکے ہیں نبی بالہمزہ اور بلا ہمزہ دونوں قرأتیں ہیں، ایسی صورت میں معاند کا لفظِ نبی بلا ہمزہ کا انکار جہالت وخیانت نہیں تو کیا ہے؟

ہمارے اپنے مسلک کی تائید کے لئے اختصار کے ساتھ دلائل کا پیش کر دینا بھی کافی تھا، لیکن ائمۂ مفسرین ومحدثین علماء لغت قرآن وحدیث ومتکلمین اور ائمہ لغت عرب کی ان تفصیلی عبارات کو محض اس لئے نقل کیا گیا کہ معاند کی خیانت واضح ہوکر قارئین کے سامنے آجائے۔

ہماری منقولہ عبارات کو پڑھنے کے بعد قارئین کرام پر یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ ہر جگہ ہماری تائیدی عبارات پہلے مذکور ہیں، جنہیں معاند نے ازروئے خیانت نقل نہیں کیا، صرف قولِ مؤخر کو اپنی تائید میں سمجھ کر نقل کر دیا جو فی الواقع اس کے مفید مطلب نہیں، جیسا کہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔

معاند نے اپنی ساری قوت اس غلط نظریہ کو ثابت کرنے میں صرف کر دی کہ اصطلاحی نبی نبأ سے ماخوذ نہیں اور اصطلاحی نبی کے معنٰی خبر دینے والا نہیں، بلکہ اس کے معنی صرف رفیع المنزلۃ ہیں۔

ہم نے دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ لفظ ''نبی'' کے اصلاحی معنٰی مبعوث من اللہ ہوکر **''مُخْبَرْ یامُخْبِرْ عن اللہ''** ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پانے والا یا خبر دینے والا، اور اُس کا رفیع المنزلۃ ہونا اسی امر پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوکر خبر پانا یا خبر دینا صرف نبی کی شان ہے، غیر نبی کا یہ مرتبہ نہیں، اسی لئے علماء نے لفظِ نبی کے اصطلاحی معنٰی خبر پانے یا خبر دینے والا التحریر کئے ہیں، جیسا کہ ہم تفصیلی عبارات ابھی نقل کر چکے ہیں۔

خلاصۃ الکلام کے طور پر ناظرین کرام معاند کے تینوں دعاوی ذہن نشین فرمالیں :

(۱) ایک یہ کہ نبی، نَبَأ بمعنی خبر سے مشتق نہیں اور اس کے معنٰی ''خبر دینے والا'' ہرگز نہیں، بلکہ وہ نَبْوَۃ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ''بلندی''، لہٰذا نبی کے معنی ہیں بلند رتبہ۔

(۲) یہ کہ لفظ ''نبی'' ہمزہ کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں آیا۔

(۳) یہ کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کو ہمزہ کے ساتھ ''نبیء اللہ'' کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہمزہ کے ساتھ نبیء اللہ نہیں، بلکہ ہمزہ کے بغیر ''نبی اللہ'' ہوں، ہم نے اس کے تینوں دعووں کو دلائل کے ساتھ رد کر دیا اور ثابت کر دیا کہ :

۱۔ لفظ نُبُوَّۃ خود ''اِنْبَاءٌ'' سے ماخوذ ہے اور لفظ ''نبی'' کا ماخذ نَبَأٌ ہے اور نبی کے معنی ہیں خبر دیا ہوا، اور ''خبر دینے والا'' اور اس کا بلند رتبہ ہونا اسی لئے ہے کہ وہ اللہ تعالٰی کی طرف سے مُخْبَر اور مُخْبِر ہوتا ہے۔

۲۔ اور ہم نے اچھی طرح واضح کر دیا کہ قرآن مجید کی قرأتِ متواترہ میں ہمزہ کے ساتھ نبیءٌ وارد ہے۔

۳۔ ہم نے اس حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا کہ اعرابی والی وہ روایت قابلِ اعتماد نہیں ہے۔

اس کے بعد ہم وہابیوں، دیوبندیوں کے مقتداء اور امام ابنِ تیمیہ کی وہ عبارات نقل کرتے ہیں، جنہوں نے معاند کے ان دعوؤں کو ھباءً منثوراً کر کے رکھ دیا اور معاند کے لئے ذلّت وخواری کے سوا کچھ نہ چھوڑا، ملاحظہ فرمایئے، معاند کے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں :

(۱) والنّبوۃ مشتقۃ من الانباء والنّبی فعیل وفعیل قد یکون بمعنی فاعل ای مُنْبِئٌ وبمنی مفعولِ ای مُنْبَئٌ وھما ھنا متلا زمان (کتاب النبواۃ، طبع بیروت، ص۳۳۳)

اور ''نُبُوَّۃٌ'' ۔ ''اِنْبَاء'' سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں خبر دینا اور ''نبی'' فعیل کے وزن پر ہے اور فعیل کبھی اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے، یعنی خبر دینے والا اور کبھی اسم مفعول کے معنی میں یعنی ''خبر دیا ہوا'' اور یہاں یہ دونوں آپس میں لازم وملزوم ہیں، یعنی خبر دینے والا ہونے کے لئے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالٰی کی طرف سے خبر دیا ہوا ہو۔

آگے چل کر لکھتے ہیں :

(۲) وھو من النَّبَاءِ واصلہ الھمزۃ وقد قرئ بہ وھی قرأۃ نافع یقرأ النبیء لکن لکثیرۃ استعمالہ لینت ھمزتہ کما فعل مثل ذٰلک فی الذریۃ وفی البریۃ، وقد قیل ھو من النُّبُوَّۃِ وھو العلو فمعنی النبی المعلی الرفیع المنزلۃ والتحقیق ان ھٰذا المعنی داخل فی الاوّل فمن اَنْبَاءَ ہٗ اللہ وجعلہ مُنْبِأً عنہ فلا یکون الارفیع القدر علیاً ۔ (کتاب النبواۃ، ص۳۳٦)

''نبی'' ''نَبَأ'' سے ماخوذ ہے، اس کی اصل ہمزہ ہے اور ہمزہ کے ساتھ اُسے پڑھا گیا ہے اور وہ نافع کی قرأۃ ہے جو اسے ہمزہ کے ساتھ ''نبیء'' پڑھتے ہیں، لیکن کثرتِ استعمال کی وجہ سے اس کے ہمزہ کو لین کے ساتھ یعنی ''نَبِیءٌ'' کی بجائے ''نَبِی'' پڑھا گیا جیسے ذُرِیَّۃ اور بَرِیَّۃ کہ دونوں ہمزہ کی بجائے یا کے ساتھ پڑھے گئے، ایک قول یہ ہے کہ لفظِ نبی نُبُوَّۃ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ''بلندی''، ایسی صورت میں نبی کے معنی ہیں ''اونچا اور بلند رتبہ''۔

اور تحقیق یہ ہے کہ یہ معنی پہلے معنی میں داخل ہیں، کیونکہ جسے اللہ تعالٰی نے خبر دی اور اُسے اپنی طرف سے خبر دینے والا بنایا، وہ وہی ہوتا ہے جو بلند رتبہ اور اونچا ہو۔ (کتاب النبوات، طبع بیروت، ص۳۳٦)

(۳) پھر اعرابی کی روایت کے بارے میں لکھتے ہیں :

وماروی عن النّبی صلّی اللہ تعالیٰ علیه وآلہٖ وسلّم انّہٗ قال انا نبیُّ اللہ ولست نبیٔ اللہ فما رأیت لہ اسناداً الامسنداً ولا مرسلا ولارأیت فی شیئٍ من کتب الحدیث ولا السیر المعروفة ومثل ھذا لا یعتمد علیه۔ (کتاب النبوات، للامام ابن تیمیة ، طبع بیروت، ص۳۳۶/۳۳۷)

اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسلم سے جو روایت کی گئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا (میں ہمزہ کے ساتھ) **نبیٔ اللہ** نہیں، بلکہ (بغیر ہمزہ کے) **نبیُّ اللہ** ہوں، میں نے اس کی کوئی اسناد نہیں دیکھی، نہ مسند اور نہ مرسل اور نہ میں نے کتبِ حدیث میں سے کسی کتاب میں یہ حدیث دیکھی اور نہ سِیَرِ معروفہ میں اس روایت کو میں نے دیکھا، اس جیسی روایت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

ناظرین کرام! یہی وہ ابن تیمیہ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے "**کل حدیث لا یعرفه ابن تیمیه فھو لیس بحدیث**" یعنی جس حدیث کو ابن تیمیہ نہیں پہچانتے وہ حدیث نہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ معاند کے اسی امام ابن تیمیہ نے اُس کے تینوں دعاوی کی دھجیاں اُڑا کر رکھ دیں اور ان کا ابطال کر کے ہماری تصدیق وتوثیق کر دی، سچ ہے "**الحق یعلو ولا یعلیٰ فللّٰہ الحجّة البالغة**"۔

اب اس بحث کے اختتام پر ہم معاند کے قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کی ایک فیصلہ کن عبارت پیش کر رہے ہیں، آپ نے "تحذیر الناس" میں تحریر کیا:

(۴۴) "جیسے نبی کو نبی اس لئے کہتے ہیں کہ خبردار یا خبردار کرنے والا ہوتا ہے، صدیق کو صدیق اس لئے کہتے ہیں کہ اُس کی عقل بجز قولِ صادق قبول نہیں کرتی۔ اھ (تحذیر الناس، مطبوعہ قاسمی پریس دیوبند، ص ۵۔۶)

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

تحذیر الناس کی اس عبارت کے بعد بھی معاند کا یہ کہنا کہ "اصطلاحی نبی کے معنی خبر دینے والا نہیں، بلکہ اس کے معنی رفیع المنزلۃ ہیں" اپنے قاسم العلوم والخیرات کی تکذیب نہیں تو کیا ہے؟۔

الحمدللہ بانیٔ مدرسہ دیوبند نے اس کا سب کیا دھرا خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ **فاعتبروا یا اُولی الابصار۔**

۲۴ رمضان المبارک ۱۴۰۵ھ/۱۴ جون ۱۹۸۵ء

سیّد احمد سعید کاظمی غفرلہ

Nafse Islam
نفس اسلام
WWW.NAFSEISLAM.COM